



سوال

(408) نماز جمعہ کی مخصوص سورتیں

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ہمارے اکثر خطباء نماز جمعہ میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الفاشیہ پوری نہیں پڑھتے۔ بعض حضرات ان سورتوں کے علاوہ اور سورتیں پڑھتے ہیں۔ ان کا استدلال ارشاد باری تعالیٰ کا عموم ہے۔ "کہ قرآن سے جو آسان ہو پڑھ لو۔" کیا ان کا یہ عمل مطابق سنت ہے یا مخالفت سنت و ضاحت فرمائیں۔ (محمد ابراہیم خریداری نمبر 1015)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کی رکعات میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الفاشیہ پڑھتے تھے۔ چنانچہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں اور جمعہ کی نماز میں سَبَّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۱... سورۃ الاعلیٰ اور بَلْ أَتَيْتَ حَدِيثَ الْفَاشِيَةِ ۱... سورۃ الفاشیہ پڑھتے تھے۔ اگر عید اور جمعہ ایک دن میں جمع ہوتے تو پھر بھی آپ دونوں سورتیں عیدین اور جمعہ کی نمازوں میں پڑھتے۔ (صحیح مسلم الجملہ 878)

اس طرح جمعہ کی نماز میں سورۃ الجمعۃ اور سورۃ المنافقون پڑھنا بھی صحیح روایت سے ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ جمعہ کی نماز پڑھائی تو اس میں سورۃ جمعہ اور سورۃ منافقون کو تلاوت کیا اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کی نماز میں یہ سورتیں پڑھتے سنا ہے۔ (صحیح مسلم: الجملہ 877)

ان احادیث کے پیش نظر ہمارے خطباء حضرات کو چاہیے کہ وہ نماز جمعہ میں ان سورتوں کو مکمل پڑھنے کا التزام کریں۔ سوال میں ذکر کردہ جس آیت کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس کے عموم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی ان سورتوں کو نامکمل پڑھتا ہے۔ یا ان کے علاوہ دوسری سورتوں کو نماز میں پڑھتا ہے۔ تو اس کے جواز میں کوئی شبہ نہیں اگرچہ سنت پر عمل کرنے کے ثواب سے محرومی ہوگی۔ تاہم ایسا کرنے کا جواز ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ایک باب میں الفاظ قائم کیا ہے۔

"دو سورتوں کو ایک رکعت میں جمع کرنا یا کسی سورت کی ابتدائی یا آخری آیات پڑھنا یا موجودہ ترتیب کے خلاف پڑھنا یہ جائز ہے" پھر آپ نے اس کے جواز کے لئے چند ایک روایات اور آثار بھی پیش کیے ہیں۔ (صحیح بخاری: الاذان باب 106)

البتہ سنت کے احیاء کا تقاضا ہے۔ کہ خطباء حضرات عیدین اور جمعہ کی نماز میں وہی سورتیں پڑھنے کی پابندی کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ تاکہ اہل حدیث کی علامت اور امتیازی حیثیت برقرار رہے۔



هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاوى اصحاب الحديث

جلد: 1 صفحہ: 418